

# President of Maldives Calls on the President

August 02, 2022

## مالدیپ کے صدر کی صدر جمہوریہ سے ملاقات

02 اگست، 2022

جمہوریہ مالدیپ کے صدر عزت مآب جناب ابراہیم محمد صالح نے آج راشٹریتی بھون میں صدر جمہوریہ ہند محترمہ دروپردی مرمو سے ملاقات کی۔

راشٹریتی بھون میں صدر صالح کا خیرمقدم کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وہ ہندوستان کے ایک قریبی دوست اور ایک ممتاز رہنما کا استقبال کرنے پر خوش ہیں جن کی قیادت میں مالدیپ ایک مستحکم اور خوشحال ملک کے طور پر ابھرا ہے۔

صدر جمہوریہ نے کہا کہ مالدیپ بحر ہند کے علاقے میں ہندوستان کا ایک بڑا شراکت دار اور قریبی دوست ہے۔ دونوں ممالک کے عوام صدیوں سے مضبوط ثقافتی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی 'پڑوسی پہلے' کی پالیسی میں مالدیپ کا ایک خاص مقام ہے۔ انہیں یہ بیان کرتے ہوئے خوشی ہوئی کہ ہندوستان کی ضرورت پر مبنی مالی اور ترقیاتی امداد مالدیپ کی حکومت کی ترقیاتی ترجیحات کی حمایت کر رہی ہے۔

صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہندوستان۔ مالدیپ ترقیاتی تعاون، دفاعی اور سلامتی کے اقدامات، اقتصادی تعلقات اور عوام سے عوام کے رابطے کی تیزی سے توسیع مالدیپ کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے لیے اچھا اشارہ ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 وبا کے دوران مالدیپ کی حکومت اور عوام کی ہمت اور استقامت کی تعریف کی۔ انہیں یہ ذکر کرتے ہوئے خوشی ہوئی کہ وبائی مرض کے دوران ہندوستان۔ مالدیپ کے مضبوط تعاون کو پورے خطے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر سراہا گیا ہے۔

صدر جمہوریہ نے نوٹ کیا کہ صلاحیت کی تعمیر ہندوستان۔ مالدیپ شراکت داری میں ایک اہم ستون کے طور پر ابھری ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس دورے کے دوران دستخط کیے گئے مفاہمت کی یادداشت سے مالدیپ میں صلاحیت سازی کے اقدامات کو مزید تقویت ملے گی۔

نئی دہلی

02 اگست، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.